

ADIGE E. FIB

جعفر



ADIGE ÉLFIB

مِرْكُس الفَبَايِّ

APERETXIL

Apere teydzegù

Adiğe élfibexeme a s̄iguazo
adiğabzem feéze delejagexeme
zedixaxige



STAMBOL

Şems tevdzaps

1922

ADIGE • ELFIB

1 — qin

a e i ī u o

a e i ī o u
o u e a ī i

á é í ú ó
á é i ú ó
ó ú é á í

3. 3 § U. ù

az e3 i3 ī3 uz 03

áz é3 í3 ú3 ó3

ùa ùe ùi ùī


azù e3ù i3ù ī3ù uzù 03ù

ázù é3ù í3ù ú3ù ó3ù



2 — qin

V.v



P.p

va	ve	vi	vī	vu	vo
pa	pe	pi	pī	pu	po
pá	pé	pí	pú	pó	
av	pav	vip	páv	áv	ipz
a-pe.	pa-ùe.	ve-ú.	ú-ve.	pi-ve.	á-ve
va-pe.	va-pé.	vi-pe.	vu-pé.	ú-pe	



W.w

(wi)

B.b

wa	we	wi	wī	wu	wo
ba	be	bi	bī	bu	bo
pa-we.	bew.	wa-pé.	be-wa	a-we	
bi-bi.	ba-ve	vi-bi	pe-vib	à-be	
é-bi.	wi-pé.	ú-pé.	wa-we.	wen	

3 — qin



F.f

(fáne)

R.r


ra	re..	ri	rī	ru	ro
fa	fe	fi	fī	fu	fo
fá	fé	fí	fú	fó	
vaf	fap	fab	pef	fav	fiv
fá	óf	úf	fír	rifa	vefz
ar-ve-ra?	be-re.	re-ve.	re-bi-bi		
fa-rer-pe-fa?			a-pe-re-ó-fer-a-ra?		

§

áv	faz	ražù	ab	fab	vef
vepz	páv	niw	wen	win	fin
fán	áfz	úfe	áfe	fá-ne.	fé-nén
frap	rab	riv	ra-ra	fa-ra	



4 — qin

**M.m****N.n**

ma me mi mī mu mo

na ne ni nī nu no

nan. pam naf nef³ maf pan

mav nav vav vin niv án

pa-me pa-ne ma-fe na-fe ma-ve

me-pa-me. me-vi-ne. me-fá-fé.

ne-fi-nan. bo-fa-be.

paùer mara? mafer-nefin



5 — qin

**L.l****T.t**

la le li lī lu lo

la le li lī lu lo

lá lé lí lú ló

lab. lab. leb. l ép. lip. leb

la-ve. ma-le. ma-lé. plá-ne. lí-ne

pi-ne. ba-le bla-ve. bla-ne. me-li

meler mepame. bilemer melepave



6 — qin



T.t

tí

ta te ti tī tu to
da de di dī du do

tá té tí tú tó

tab tin nat den din ved
va-te. ta-be. de-ni. ma-de. ve-red
tá-pé. tí-pé. ma-té. tá-té. té-re
do-me-sar. do-be-dan. te-ma-pé
bī-te-mir

tema pem vi teyá? denefer ve viya?
niver vera? natrifer metápé.
farer metáre. jepeder metépi



D.d

7 — qin



S.s

sa se si sī su so

za ze zi zī zu zo

sav zav sin zan ves ús

á-ze. sa-ne. za-ve. si-ni. za-fe. ve-sí

ma-bze. ta-ze. va-se. bzi-ni.

na-sip na-ze

ze-va-pe. se-ne-psi. ze-fe-de-
me-za-pe. ve-se-psi

jér mezave. senepser blimep.
blaner mejate



8 — qin



DZ. dz

dze

8
Y.y

dza dze dzi dzī du dzo
 ya ye yi yī yu yo
 dziv. vedz. teydz. yedz. údz úadz
 dzi-ve ye-dzi dza-pe pey-dze.
 pa-dze. dza-pe yiz yi-én á-ye
 ú-ye. sīz si-yz yī-é-na ?

meliy siyz. blimibe viyz.
 tí za vul yaz. dzivem de yiz.
 dzem yī ázer mari



9 — qin

100

C.c

3


S.s

ça	çe	ci	cī	cu	ço
śa	śe	śi	śī	śu	śo
çá	çé	çí	çú	çó	
śá	śé	śí	śú	śó	

cén çen śén śen veś vec
 ça-ve. çá-le. śá-le. çùiz. ve-śi. śa-te
 ci-ne. na-śe. ne-çu. ça-be. ba-śe.
 cí-ni. çùe-vi-çú. śe-fa-be. ce-ve-çú
 çaver veridizù. śimiém veymiż.
 jím yimiz śiép. çùevim śate teyl.
 bilimim ús yat.



10 — qin



J. j

ja je jī jī ju jo
ja je jī jī ju jo

jav jas vij yej yej nej bej
jī-fi. ma-je. me-jī. fi-jī. ne-nej.
jé-vapz. vi-se-rej ve-jī-še ve-ja-je
ye-vi-jir. fey-je-nep.

mi majér se siy. vi mi jajev véjena?
sevjirev seyjen.

líjimre nivemre vinem yīzīx



11 — qin

C. c



Dj

cemi

ca	ce	ci	cī	cu	co
cá	cé	cí	cú	có	
dja	dje	dji	djī	dju	djo

cev	vidj	adj	can	djan	djin
ma-dje	dji-ne	ce-ti	ca-te	ma-cé	
ye-dja-pé	me-cé-macz	me-cé-ded			
de-ne-djan	ci-me-fay	cé-se-ni			
vi-mi-bzadj.	cé-le-can				

cáler canim yi nasip. bzadjer cássep



12 — qin



Q.q

qa qe qi qī qu qo
 qā qé qí qī qū qó
 qá qé qí qú qó

qap qet quv qùez qup qun
 qan qin qup qul quan quav
 qu-ve qu-ye qe-ti qe-tiv qu-fab
 qu-pse. ze-qùe-ti qe-te-ji qu-p̄si-sen
 qu-za-jùe jùe-na-qúe

tede vi qúera ? yeqapém seqúe.
 ye miqere meqúedi qàpser tede s̄is ?
 qupser te qúena ? mi çuater masqué



13 — qin

G.g

G.ḡ

ga ge gi gī gu go
 ḡa ḡe ḡi ḡī ḡu ḡo
 gin ḡin gen ger bḡen gibz
 gi-ni bḡa-ne bga-ge bḡi-bze
 gu-ge ne-bḡi na-bḡùe gu-negù
 bḡa-ga ? ga-ble
 gebeju vegùet ap̄s !

adiḡe cáler yegadj. gunegur gelapé



14 — җин



H.h



X.x

ha he hi hī hu ho
xa xe xī xī xu xo

xin xan bin nah veh hav
mah ix teyx vex úx vex
ha-ba-dze. the-má-fe. tī-xe-geqù.

qup̄sīsī psal̄e zip̄lahī tīs.

vī vine ziśigasī xase qúe.

ofiter afírep líqúer avicírep.
pader medeñu



15 — җин



X.ñ

ke

K.k


ñā ka ñe ke ñi ki ñī kī ñu ku ño
kav. ma-ke. ka-mil
ñan, nañù. kah
ñu-ge. ña-ge ñan-te. ma-ke. ka-mil
txi-pñ xu-pñe ka-ze ka-qúe ku-çhe
me-ka-yé. me-ñua-pse. ti-gua-qúe

ki-ne-sig.

xegeñur ziyem yałapz.
vinaçuer céleçum avbiti.
adiğager zefedo tiy kan.
gesager yi liyo tiycás.



16 — qin



Ts

tsa	tse	tsi	tsī	tsu	tso
tsá	tsé	tsí	tsú	tsó	
tsap	tsan	tsiv	tsav	vets	vits
tsa-pe.	pá-tsé.	tsi-ye.	vi-tsi.	ve-tsi	
me-tsíjù-de	tsi-yepxe	tsiy	vi-tsi	ptsé	
ptsi-ma-me.	ptsí-vi-sa-qúe.				
ptsi-zac3.	pa-tse.	tsi-bzi			



17 — qin



JJ. SS. DJ. CC

ssá	ssé	ssi	ssí	ssu	ssó
jja	jje	jji	jjí	jju	jjo
dja	dje	dji	djí	dju	djo
cca	ccé	cci	ccí	ccu	ccó
ssi-ví.	ssé-ni.	jja-ke.	jja-ne		
ben-dji-ge.	me-ben-dji	ccíqù	ccep		
		qúa-ccé			

tsifim qúaccé xel. mi s̄ser ccer
s̄sev ccere yebendig.
s̄sim itse veyepjiga ?



18

Céle negunq̄

Negunqer yi ne úiyłhiy yate yeqev tísige. Céletsíqum ar zeylegum : - „tat. serī seyq̄e scóeyiguey negunq̄e kisfşef,, iúag. Yate-“ xun siynef, kifess̄efin av, kifeş̄efișter céle negunq̄,. iúiy, calem élibe txil kifiyşefig.

(yemiq̄ager neçu)

calem txil er yi negunq̄



19

queşneegue tsīqum yi yeqapz.

queşenegue tsīqum yi lesix yi nibjig. yej yi xupxagedje élibe zeriygeçágo sitig. yi nise p̄apexeri riygeqeno iqù kecíg yi(nisepxapxer) zequiygetéishiy, txil er ištiy yej ya paçhe yitishag . - (mir b, mir t, modirer h,) ió ders arizto feyjag.- (zejügeçágeba ? zejügeçágeme zişicümigegupçej) ariyótiy, txil er yagetılıjo sitig.

xupxer xuepsague.



20

Aslanémre tsiguemre

zi mafe ԛorem asjaner ciyo ԛipo,
 zi tsigue tsiqùz ԛure yi nape
 kiteyładiy kigevišig kizevišim
 yepxuiy tsiguer ivibitg. Tsiguer
 ԛuzajuiy, "tabume sivmięxo sitùpšij,
 seriy zi mafe ԛorem sipchapejin,"
 iúiy asjanem yejeó fełag. Asjaner
 dehešxiy tsiguer itùpšijig.

Mefe zavile decigo asjaner
 yimiçáxeze xitivim qùy yifag kugo
 feyjiy yi kugi makem tsigue tsiqúer
 keyqùg. Asjaner zixefge
 thamišqáguer zeylegum, yeíy cέx-
 céxo qépsezeriħexer zepiçxiqýy,
 kiriygutùpšijig.

(cú pçeme vi uçéjin)

gucí cev ziyériy gucí maste secé.

Kuedjah: netsiqú pe tsiqù ԛediqù
 tsiqú ziśig.

21

zefen

— zeraó zeraótejo pasem :

"zi asjan, zi tiguj, zi Badje, zi
 vaşx,, aś zi zeúcé açígag. Asjaner
 ya themateti mo ԛito kariyóag :

"idj, siyguse ԛupsex tizeç, tizegus
 idjiriy tizeáhegu. Se zguetriy
 keyshilén, çue jugueteriy vinem
 keyçuhilz, Pstomiy ióager xundje
 zeadctag. Yatóenere mafem tigujim
 zi mez-pcen kiriyhilág. Thematem
 yi épçe-lapçe diyšaiy, mez-pcener
 zefedilpó zepkiriyxig. yi guseme
 zakifiygaziy mo kariyóag : — "mir
 te tfede pstomí ya p̄si asjanem yi
 áh, midireyriy thamate áheçi se siy
 modireyriy léblene áheçi ariy se siv
 ya pláno kenagem nesirem yi pceb
 zepisvitin ..

(lecí zīmiér thamicz)

22

Siy Xeqù

siy xequr t̄ago,
zi xegeqù cágue.
yipsre yijre fó,
zi cíqù étige.

§

yi psiñuixer bo:
terq, psij, faz, labe.
lejequé xegeqù ;
se siy xegeqù lapé.

§

yi vafer daxo;
yi xaser zafe.
xequm yi misim,
sidir yi mafe ?

Égum-i-Kue Tembolet



23

Fes ap̄s t̄iy mezij

a tiy mezij ȣups ! t̄ipsexer ve pteyl.
a tiy mezij dax ! dexagem yi cíl.
a tiy mezij maf ! mefager zi pił.
a tiy mezij lağ ! lağexer zideł.

viy psinibexer jeneti xadex.
viy psiñuixer cevseri fedex.
viy blene ȣanexer mezim ȣeladex.
viy ȣubgeçxuixer daxo melidix.

te tiśiémī tiy ȣugur veri !
te ti t̄ismī tiy kugur veri !
te zidgazemī tiy ȣugur veri !
te ti kanemi tiy negir veri !

a tiy mezij dax ! zepeço višeł!
a tiy mezij lağ ! mīnīço višeł!
a tiy mezij maf feçuaço višeł!
a tiy mezij diç diçaço višeł !

— Janqat —



a e i ī u o ù ɔ v w p

b f r m n l l t d s ts

z dz y ç s ss j jj l c cc

dj dj ḫ q g ḡ h x ḫ k

مُتَرَجِّل حرف

معنی اردو	طرز تلفظی	ترجمہ	بچہ
عربی مجھے	تولیج کوہ		
الجیوش	اردو	dze	ڈڑہ
السن	دیش	tse	سے
البقر	اوکور	wi	و
الجن	جن	djine	ج

مضاaffer حرف

الفوش	آت	ssi	ss
الم	آفن	jje	jj
سقط الون	دوشدي	yeben-	dj
اركوش	فوش	djig	cc

V P B F M N P Z

L R C D S C C Z

YJ2GBZH

w p b f m n ʃ l r t d s

z y j y s o q q g j g h a x h

[3]

QÉVIX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 30 40 50 60 70 80 90 100

1000

بسیط حرفلر

معنالى		طرز تلفظلىرى	ترىكىه و عربىجه	بىچى
عربىجه	تورىكىه	كوسىرر مەتالىر	مقابىلارى	بىچى
الجوز	جوز	de	د	d
السكين	چاق	se	س	s
المأ	بوز	çe	ص	ç
الواحد	بر	zi	ز	z
الثان	سكر	yi	ى	y
الربع	روزكار	ji	ژ	j
العتيق	اسكى	l̄i	ظ	ł
الثلاث	اوج	śi	ش	ś
الطحال	دالاق	ce	ج	c
التدى	ندات	q̄e	ك	q̄
الطحال	دالاق	qe	ك	q
الصيف	ياز	ge	غ	g
الباروت	باروت	ḡini	خفيف غ	ḡ
.	اورىكىو	xage	خ	x
البحر	درىز	xi	خفيف خ	x
الكلاب	كوبىك	he	ح	h
القبر	مزار	ke	ف	k

بسیط حرفلر

معنالى		طرز تلفظلىرى	ترىكىه و عربىجه	بىچى
عربىجه	تورىكىه	كوسىرر مەتالىر	مقابىلارى	بىچى
الام	والده	ane	فتحة ممددة	a
الكثير	چوق	be	فتحة	e
حالاً	شمدى	īqi	كسرة مقصورة	i
ثلاثما	اوچيوز	ç̄is	كسرة ممدودة	ī
الحمد	سنار	gune	ضمة مقووضة	u
اليوم	جوكون	nobe	ضمة مبسوطة	o
الجار	قومشو	gunegù	ضمة خفيفه تك حال توقفه كى مقصورة تى	ù
الموجود	وار	śī3	هـ هيزه	ʒ
انت	من	ve	و	v
الانف	برون	pe	بـ	p
الجلد	درى	fe	فـ	f
الكثير	چوق	be	بـ	b
التفاح	الـ	mi	مـ	m
العين	كوز	ne	نـ	n
الرجل	آياق	le	چركىس لسانه مخصوص ير حر فدر	T
الاعم	ات	li		L
.	ـ	ri	ـ	r
الاب	پالما	ti	ـ	t

- u — ضمه مقوسطه در مقام رجا و تشكريده ايراد اولان
کلمه سنه او لد يني کي تلفظ او لنور . (نو)
tabu صدادسي حاصل ايتمك اي جون همزه اشارتى آير
دو داق ديمك او لان \bar{u} پوسته او لد يني کي
 \bar{u} — بور حرف ضمه مقوسطه نك حال و قفده کي مقصوريتني کو ستر
کند يسندن اول کلن حرف ساكن ضمه او لارق
توقف اي در وطن ديمك او لان xeq \bar{u} و قوشو
ديمك او لان guneg \bar{u} کلمه سنه او لد يني کي
o — کله آره لرنده و نهاي تلر نده ضمه ثقيله مبوسطه و ظيفه سني
کور يز nobe و domesar و dobedan
کلمه لرنده او لد يني کي . کله لرك او لنه کلد يك وقت همزه
اشارتى آير \bar{o} کلمه سنه او لد يني کي
3 — بور حرف ساكن همزه در \bar{u} حرف دن ماعدا صدالي
حرفلدن اول کلمز اشیاء مالکم ديمك او لان ap \bar{u}
کلمه لرنده او لد يني کي
s13 — بور حرف (ل، ل) حرف دن خفيف و کسكن بر صدا
وير چر کس لسانه مخصوص بر حرف در قان ديمك
اولان \bar{l} ويوكس ديمك او لان la $\bar{g}e$ کلمه لرنده
او لد يني کي
J — بور حرف عرب مجده او لان (ظ) حرف کيدر اسکي
اختيار ديمك او لان \bar{j} و طاوا ديمك او لان ja $\bar{p}xe$
کلمه لرنده او لد يني کي
g — بور حرف (غ) حرف دن خفيف بر صدا وير رو چر کس

- گاني مخصوص در باروت ديمك او لان $\bar{g}ini$
کلمه سنه او لد يني کي
- X — بور حرف (خ) حرف دن خفيف و کسكن بر صدا
وير و چر کس لسانه مخصوص در عادت ، قانون ديمك
اولان xabze کلمه سنه او لد يني کي
- w — بور حرف (و) حرف دن خفيف مشدد در قبه رد هي شيوه سنه
مخصوص در او كوز ديمك او لان \bar{w} ويلديز معناسته
کلن vague کلمه لرنده او لد يني کي
- dz — بور حرف دز حرف لرينک متزج صدادسي وير او ردو
وعسکر ديمك او لان dze کلمه سنه او لد يني کي
- ts — بور وفلرت ، س حرف لرينک صوت ممزوجي در
ديش ديمك او لان tse کلمه سنه او لد يني کي
- jj — بور حرف بظه دوغ شيوه سنجه آخن ديمك او لان \bar{je}
کلمه سنه او لد يني کي او قونور (j) حرف مصاعف دير
- $\bar{s}\bar{s}$ — بور حرف ش حرف دن مصاعف او لوب بظه دوغ شيوه سنجه
آن ديمك او لان \bar{ssi} و ايج يافی ديمك او لان \bar{sse}
- کلمه لرنده او لد يني کي تلفظ او لنور .
- cc — بور حرف قوبان شيوه سنه مخصوص در قيراغي ديمك او لان
کلمه سنه او لد يني کي تلفظ او لنور
- ceep — بور حرف \bar{d} حرف لرندن مرکب و ج حرف دن قالين
بر صدا وير ye bendjig کلمه سنه
- او لد يني کي

تعریفات [*]

a — بـ حـرـفـ فـتحـةـ مـدـوـدـهـ دـرـ مـلـ لـقـبـ اوـلـانـ adige

وـ وـالـدـ دـيـمـكـ اوـلـانـ ari وـاـوـتـ دـيـمـكـ اوـلـانـ

کـلـهـ لـرـنـدـهـ اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ تـلـفـظـ اوـلـنـورـ . (آـ) صـدـاسـنـیـ

وـیرـمـکـ اـیـچـونـ هـمـزـهـ اـشـارـتـیـ اوـلـانـ اـقـسـانـهـ کـوـ اـشـارـتـیـ

آـلـیـرـ سـفـرـهـ دـيـمـكـ اوـلـانـ áne وـ چـاـپـاـ دـيـمـكـ اوـلـانـ

کـلـهـ لـرـنـدـهـ اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ fáne

e — بـ حـرـفـ فـتحـةـ خـفـيـفـهـ دـرـ چـوـقـ دـيـمـكـ اوـلـانـ be

کـلـهـ سـنـدـهـ اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ تـلـفـظـ اوـلـنـورـ (ءـ) صـدـاسـنـیـ

وـیرـمـکـ اـیـچـونـ هـمـزـهـ اـشـارـتـیـ آـلـیـرـ چـوـلاقـ دـيـمـکـ اوـلـانـ

آـوـوـجـ اـیـچـیـ دـيـمـکـ اوـلـانـ équ وـآـوـوـجـ اـیـچـیـ دـيـمـکـ اوـلـانـ

کـلـهـ لـرـنـدـهـ اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ .

i — بـ حـرـفـ کـسـهـ خـفـيـفـهـ دـرـ شـبـمـدـیـ، درـحـالـ دـيـمـكـ

اوـلـانـ iqipstu, iqiped کـلـهـ لـرـنـدـهـ اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ

تـلـفـظـ اوـلـنـورـ (ئـ) صـدـاسـنـیـ وـیرـمـکـ اـیـچـونـ هـمـزـهـ

اـشـارـتـیـ آـلـیـرـ باـقـيـمـسـزـ دـيـمـکـ اوـلـانـ iqeç گـلـهـ سـنـدـهـ

اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ .

İ — بـ حـرـفـ یـ حـرـفـ دـهـاـمـدـوـدـ اوـلـهـرـقـ اوـقـوـنـورـ وـعـینـ

قـوـاعـدـ وـاحـکـامـهـ تـابـعـدـ اـوـچـ قـوـیـوـنـ دـيـمـکـ اوـلـانـ

melis کـلـهـ سـنـدـهـ اوـلـدـيـنـیـ کـبـیـ

[*] تـرـكـجهـ وـعـرـجـوـ مـفـاـبـلـارـیـ بـولـنـانـ حـرـوـفـاتـ صـورـتـ تـلـفـظـلـرـیـ
جـدـولـ مـخـصـوـصـنـکـ تـذـقـنـیـلـهـ پـاـکـ کـوـزـلـ آـکـلاـشـیـلـهـ جـغـنـدـنـ تـعـرـیـفـاتـ یـاـلـکـزـ
چـرـکـسـلـانـ وـشـیـوـهـسـنـهـ مـخـصـوـصـنـکـ اوـلـانـ حـرـفـلـهـ اـخـصـارـ اـبـدـیرـلـشـدـرـ .

Zafere - kuanşere

صواب	حکما	سعر	جنيه
iqided	iqipep	۲۴	۱
I	I	۲۶	۲
gini	gini	۸	۳
الفرس	الفرش	۰	۰
xegeqù	xegeqù	2	24
zefen	efen	1	23
asjaner	asjaner	13	22
secé	secé	18	22
zequigetishiy	zequigetéishiy	6	21
yitishag	yitishag	7	21
ariyto	arizto	8	21
kifessifişter	kifeşşefişter	6	20